



سوال

(173) نماز عید کہاں ادا کی جائے؟

جواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کیا عید کی نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے یا مسجد سے باہر کھلے میدان میں؟ کتاب و سنت کی رو سے واضح کریں۔

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عید کی نماز عید گاہ میں ادا کی جائے آپ عید والے دن مدینہ سے نکل کر باہر عید گاہ میں نماز عید ادا کرتے تھے، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید المظہر عید الاضحی کے دن عید گاہ کی طرف نکلتے تھے۔ (صحیح البخاری کتاب العیدین)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں "اخبار المدینہ" کے حوالے سے لکھا ہے کہ "الصلی (عید گاہ)" مدینہ میں ایک معروف جگہ ہے اس کے اور مسجد کے دروازے کے درمیان ایک ہزار ہاتھ کی مسافت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف نکلتے تھے اور نیزہ آپ کے آگے ہوتا اور اسے آپ کے آگے عید گاہ میں نصب کیا جاتا آپ اس کی طرف نماز ادا کرتے تھے۔ (صحیح البخاری) معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز مسجد کی بجائے عید گاہ میں پڑھی جائے البتہ عذر کی صورت میں مسجد میں ادا کی جاسکتی ہے اس کے بارے مرفوع روایت تو ضعیف ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بارش کی صورت میں مسجد میں نماز ادا کی البتہ امام ابن حزم فرماتے ہیں عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عید کے دن بارش ہونے کی بنا پر لوگوں کو مسجد میں نماز عید پڑھانی۔ (المحلی 129-5/128)

امداد عذر کی وجہ سے نماز عید مسجد میں ادا کی جاسکتی ہے۔

هذا عندی والله أعلم بالصواب

تفہیم دین



جَمِيعَ الْكِتَابِ لِلْأَمَّةِ
الْمُسْلِمَةِ
مَدْعُوُاتُ الْفَلَوْيَ

كتاب العيد من، صفحه: **230**

محمد فتوی